

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

ہر دور اپنے ساتھ بہت سے ایسے معاملات بھی لے کر آتا ہے جو کسی کی پسند کے نہیں ہوتے مگر انہیں قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدرت شاید ہمیں آزمانے کی خاطر ایسا بہت کچھ ہمارے سامنے رکھتی ہے جو ہمارے مطلب کا نہیں ہوتا بلکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا مگر پھر بھی اسے زندگی کا حصہ بناتے ہوئے چلنا پڑتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی چل رہا ہے۔ ہر صدی اپنے ساتھ ایسی تہذیبیں لاتی رہی ہے جو گزشتہ صدیوں کے مقابلے میں بالکل نئی تھیں۔ فطری علوم و فنون کی ترقی نے انسان کو ایسا بہت کچھ دیا ہے جسے علمی و معاشی عمل کا پکا ثمر قرار دیا جا سکتا ہے۔ قدرت ہمیں پھل دیتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی پابند کرتی ہے کہ اس کے پھلوں کو ذرا تنگ سے کھانے لگائیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ماحول کی تلخ بڑھتی ہے

\*\*\*\*\*

Every era brings many issues which no one likes but has to accept them. Sometimes, nature <sup>tests</sup> examines us by putting something in front of us which we have nothing to do with it. But still <sup>we</sup> have to make it a part of life. It is happening today. Every century <sup>brings</sup> bringing certain changes that <sup>were</sup> quite new from previous centuries. The advancement of natural sciences gives us a lot of ~~useful~~ things that are considered ~~as~~ as the scientific waste. For instances, nature gives us resources <sup>also</sup> and makes us <sup>that</sup> we responsible will dispose them properly. If it is not done properly, environment gets polluted.